



BWP-24

نوٹ : ہر سوال کے چار جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں معروضی جوابی کاپی انبل شیٹ پر اس سوال نمبر کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو قلم کی سیاہی سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

Banking Companies Ordinance is :	بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ہے :	سوال نمبر 1
(A) 1947 (B) 1948 (C) 1984 (D) 1962		(1)
Commercial Banks are own by :	تجارتی بینک ملکیت ہوتے ہیں :	(2)
(A) Public عوام کی (B) Government گورنمنٹ کی (C) Non Trading Concern غیر تجارتی ادارے کی (D) Sole Traders واحد ملکیت کی		
ATM is used to :	ای۔ ایٹ۔ ایم کو استعمال کیا جاتا ہے :	(3)
(A) Withdraw Money رقم نکالنے کے لیے (B) Create Money رقم پیدا کرنے کے لیے (C) Deposit Money رقم جمع کروانے کے لیے (D) Waste Money رقم ضائع کرنے کے لیے		
Credit Creates by :	زراقتبا رقیق کرتا ہے :	(4)
(A) Commercial Bank تجارتی بینک (B) Company کمپنی (C) Firm فرم (D) Sole Trader واحد ملکیتی		
Basic objective of Commercial Bank is :	تجارتی بینک کا بنیادی مقصد ہے :	(5)
(A) Welfare فلاح (B) Profit منافع (C) Granting Loan قرض کی فراہمی (D) Trading تجارت		
In Pakistan , Clearing house is :	پاکستان میں حساب گھر ہے :	(6)
(A) Commercial Bank تجارتی بینک (B) Central Bank مرکزی بینک (C) Foreign Bank بیرونی بینک (D) Scheduled Bank قرض کی فراہمی بینک		
State Bank of Pakistan formed under the Ordinance of :	سٹیٹ بینک آف پاکستان قائم ہوا ہے بذریعہ آرڈیننس :	(7)
(A) 1973 (B) 1965 (C) 1948 (D) 2017		
Pay - In - Slip is written evidence of :	پے۔ ان۔ سلپ تحریری ثبوت ہے :	(8)
(A) Transferring Money رقم بھجوانے کا (B) Depositing Money رقم جمع کروانے کا (C) Withdrawing Money رقم نکالنے کا (D) Wasting Money رقم ضائع کرنے کا		
A person having account with Bank is called :	ایسا شخص جس کا بینک میں کھاتا ہو کہلاتا ہے :	(9)
(A) Owner مالک (B) Customer گاہک (C) Partner حصار (D) Dealer ڈیلر		
The Price for the use of money is called :	رقم کے استعمال کے بدلے میں دی جانے والی قیمت کہلاتی ہے :	(10)
(A) Profit منافع (B) Commission کمیشن (C) Dividend منقسم (D) Interest سود		
In Pakistan , which Bank has monopoly of note issue is :	پاکستان میں کس بینک کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت داری حاصل ہے :	(11)
(A) Commercial Bank تجارتی بینک کو (B) Industrial Bank صنعتی بینک کو (C) State Bank مرکزی بینک کو (D) School Bank سکول بینک کو		
The number of financial institutions in money market is :	بازار زر میں مالی اداروں کی تعداد ہے :	(12)
(A) Un-limited غیر محدود (B) Limited محدود (C) Fixed مقرر ہوتی ہے (D) Normal عام ہوتی ہے		
Cheque is an Un-Conditional _____ :	چیک ایک غیر مشروط _____ ہے :	(13)
(A) Order حکمانہ ہے (B) Request درخواست ہے (C) Letter خط ہے (D) Appeal اپیل ہے		
Parties in letter of Credit are :	تجارتی اعتباری خط میں فریقین کی تعداد ہے :	(14)
(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 4		
The rate used to keep the Balance of Payment equilibrium is called :	ادائیگیوں کے توازن میں استعمال ہونے والی شرح کہلاتی ہے :	(15)
(A) Exchange Rate شرح مبادلہ (B) Discount Rate شرح کنوٹی (C) Interest Rate شرح سود (D) Market Rate شرح بازار		

Inter (Part - II) / کامرس گروپ	1490 - 1000	رول نمبر 24-BWP
Principles of Banking (Subjective)	Ist-A-Exam-2024	پرنسپلز آف بینکنگ (انشائیہ)
کل نمبر : 60	سیشن (2020-22) to (2022-24)	وقت 2 : 10 گھنٹے



ہدایات ﴿ ﴾ حصہ اول یعنی سوال نمبر 2 ، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے کوئی سے (6 - 6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔

جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور پڑھو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note : It is compulsory to attempt any (6 - 6) parts each from Q.No.2, 3 and 4 while attempt any (03) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

36 = 2 x 18

(Part - I) حصہ اول

- Write down a note on Evolution of Banking. سوال نمبر 2 (i) بینکاری کے ارتقاء پر نوٹ لکھیں۔
- Write down the different methods of formation of Bank. (ii) بینک کو قائم کرنے کے مختلف طریقے لکھیں۔
- " Bank is factory of Credit Creation ". Explain. (iii) بینک اعتبار زر کا کارخانہ ہیں۔ وضاحت کیجئے۔
- Write points of difference between Current Account and Fixed Deposit Account. (iv) بچت کے کھاتے اور معیادی کھاتے کے درمیان فرق کے نقاط لکھیں۔
- Write a note on " On - Line Banking ". (v) آن لائن بینکنگ پر نوٹ لکھیں۔
- Define quantitative method of Monetary Policy. (vi) زری پالیسی کے تقیادی طریقہ کی تعریف کریں۔
- How many Nationalized Banks are functioning in Pakistan? (vii) پاکستان میں قومی تحویل میں کتنے بینک کام کر رہے ہیں؟
- Write the name of two departments of State Bank of Pakistan. (viii) سٹیٹ بینک آف پاکستان کے دو شعبہ جات کے نام لکھیں۔
- Write two function of Central Bank. (ix) مرکزی بینک کے دو وظائف لکھیں۔
- What is Profit and Loss Saving Account? سوال نمبر 3 (i) نفع و نقصان کا بچت کھاتا کیا ہے؟
- Point out the Contents of Pay - in - Slip. (ii) پے این سلپ کے اندراجات کوئی سے؟
- Analyze Joint Customer of Bank. (iii) بینک کے مشترک گاہک پر تجزیہ کریں۔
- Define Banker. (iv) بینکاری کی تعریف کریں۔
- Define Personal Guarantee. (v) ذاتی ضمانت کی تعریف کریں۔
- Point out two Principles of Advancing Loan. (vi) قرض جاری کرنے کے دو اصول بتائیں۔
- Differentiate between Capital and Money Market. (vii) بازار زر اور سرمایہ بازار میں فرق بتائیں۔
- What do you know about the establishment of IDB? (viii) اسلامی ترقیاتی بینک کے قیام کے بارے آپ کیا جانتے ہیں؟
- List down two Islamic modes of Financing. (ix) اسلامی سرمایہ کاری کے دو طریقے بتائیں۔
- Write down any two advantages of Scheduled Bank. سوال نمبر 4 (i) فہرستی بینک کے کوئی سے دو فائدے تحریر کریں۔
- When and why endorsement of Cheque is required? (ii) چیک کی تصدیق کب اور کیوں درکار ہوتی ہے؟
- Define Cheque. (iii) چیک کی تعریف کریں۔
- What is meant by Bill of Exchange? (iv) ہنڈی سے کیا مراد ہے؟
- What is meant by the retirement of Bill of Exchange? (v) ہنڈی کی سکدوشی سے کیا مراد ہے؟
- Define Money Order. (vi) منی آرڈر کی تعریف کریں۔
- Point out the stages of opening commercial letter of Credit. (vii) تجارتی اعتباری خطا کو کھولنے کے مدارج بیان کریں۔
- How does Bank rate bring change in Exchange Rate? (viii) شرح مبادلہ پر شرح بینک کس طرح تبدیلی لاتی ہے؟
- Define Exchange Rate. (ix) شرح مبادلہ کی تعریف کریں۔

24 = 8 x 3

(Part - II) حصہ دوم

- سوال نمبر 5 آپ بینکوں کی مختلف اقسام کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے واضح کریں۔
- (8) How you can elaborate the different types of Banks ? Write in detail.
- سوال نمبر 6 مرکزی بینک کی طریقوں سے ملک میں زر کو کنٹرول کرتا ہے؟
- (8) What are the different methods adopted by the Central bank to Control the Credit?
- سوال نمبر 7 اچھی کفالت کی خصوصیات تحریر کریں۔
- (8) Write the qualities of a Good Security.
- سوال نمبر 8 چیک کے مسز دہونے کی وجوہات بیان کریں۔
- (8) Describe the reasons of Dishonouring the Cheque.
- سوال نمبر 9 کاروباری آدمی کو بینک میں کھاتا کھولوانے کے فوائد تفصیلاً بیان کریں۔
- (8) Explain in detail benefits of opening a Bank account to Businessman.

B

-----☆☆☆☆-----

24-04-2024